

موزوں پر مسح کی مدت سونے سے شروع ہوگی یا اٹھنے سے
الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں
کہ اگر کوئی وضو کر کے موزے پہن کر سویا تو اس کی مدتِ مسح سونے سے
شروع ہوگی یا اٹھنے سے -

سائل: عثمان فرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

موزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جب وضو ٹوٹتا ہے اس وقت سے مسح کی مدت کا
شمار ہوتا ہے مثلاً صبح کے وقت وضو کر موزہ پہنا اور ظہر کے وقت پہلی بار
حدث ہوا تو مقیم دوسرے دن کی ظہر تک مسح کرے کیونکہ اس کا وضو گذشتہ
ظہر کے وقت ٹوٹا تھا۔

غافل ہوکر لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹتا ہے لہذا جب وہ غافل ہوکر لیٹ کر سویا
تو اسی وقت سے موزوں پر مسح کی مدت شروع ہوگی نہ کہ اٹھنے سے۔

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

SLEEPING WHEN WEARING LEATHER SOCKS

Question:

What do the scholars of the Din and the muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: if a person performed wudu (minor ablution), wore leather socks and then slept, will the period of wiping on the socks start from the time of sleeping or from the time of waking up?

Questioner: Uthman from UK

Answer:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

The period of masah (wiping over the socks) starts when wudu breaks for the first time after wearing leather socks. For example, if a person did wudu after Fajr and wore leather socks, and the wudu broke – for the first time – during Zuhr, then a muqim (resident) can perform masah until the Zuhr of the next day, as his wudu broke during Zuhr of that day.

Sleeping whilst lying down heedlessly breaks the wudu. Thus, the period of masah began when the person slept whilst lying down heedlessly, and not after he woke up.

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadiri

Translated by the SeekersPath Team